

15 جون 2018

**نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے کا جشن
بروز جمعرات، مورخہ 21 جون - گارڈن اسکوائر**

برامپٹن، آن فرسٹ نیشنز، انیونٹ اور میٹس کے ورثے، متنوع ثقافتوں اور غیر معمولی کامیابیوں کا جشن منائیں، اس ضمن میں سٹی آف برامپٹن اس خصوصی دن کا گارڈن اسکوائر، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں جشن منانے کے لیے پیل ایب اور جنل نیٹ ورک کے ساتھ شراکت داری کر رہا ہے۔

برامپٹن کے نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے کے جشن میں فن کے مظاہرے، رقص، روحانی تعلیمات اور دیگر کئی اقسام کا آگاہی مواد شامل ہو گا۔ یہ دن پیل ریجن میں مقامی لوگوں کی بھرپور تاریخ پر روشنی ڈالے گا اور ہماری کمیونٹی میں سمجھ بوجھ پیدا کرے گا۔ ایک افتتاحی سرگرمی، مردوں اور خواتین کے روایتی اور دیگر جدید رقص، براہ راست موسیقی، پڑھنے کے لائق مواد اور میلے کی رنگا رنگ سرگرمیوں کا حصہ بننے کے مواقع سے لطف اندوز ہوں۔

اقتباس:

"سٹی آف برامپٹن کو اس دن کے موقع پر پیل ایبوریجنل نیٹ ورک کے ساتھ شراکت داری کرنے پر فخر ہے۔ اب، پہلے سے بھی زیادہ، یہ جشن مقامی تاریخ، روایات اور ان لوگوں کے کردار کی اپنی سمجھ اور پہچان کو بڑھانے کا زبردست موقع ہے۔ ہم جشن کے اس قومی دن برامپٹن کے گارڈن اسکوائر میں ان کہانیوں کو آپ کے ساتھ شیئر اور تلاش کرنے کے لیے پر جوش ہیں۔"

- میئر لنڈا جیفری

تفصیلات:

نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے 21 جون کو دن 12:30 سے 1:30 اور شام 6:30 سے 8:30 تک گونا گوں پروگراموں کے ساتھ ایک مفت کمیونٹی تقریب ہے۔ نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے کے متعلق مزید جاننے کے لیے اور گارڈن اسکوائر کے پروگراموں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے brampton.ca/gardensquare ملاحظہ کریں۔

پیل ایبوریجنل نیٹ ورک ایک انڈیجینس فرینڈشپ سنٹر ہے، جو ریجن آف پیل کی قدیم مقامی کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ یہ اونٹیریو فیڈریشن آف انڈیجینس فرینڈشپ سنٹرز کا رکن ہے۔

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر بوجہمیں ٹوٹتے اور فیس بک پر فالو کریں www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

